

圖森市和皮馬縣住宅計畫接受申請

包括第8節和城市擁有的住宅計畫


1月3日（星期二）上午9時開始接受申請

瞭解更多資訊：waitlist.tucsonaz.gov

有問題嗎？需要幫助嗎？

TucsonWaitingList@tucsonaz.gov | (520) 791-5840

失聰或者聽力障礙：聽語障人士專線 7-1-1



EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

圖森市住宅和社區發展部致力於完全遵守所有相關非歧視和平等住宅機會的州、聯邦和地方法律。

圖森市致力於其計畫和服務的無障礙化。其他申請選項包括紙質申請、盲文、大號字體或為講另一種語言的人士提供翻譯。圖森市已準備好應對所有需要援助或合理便利的請求。

"If you require a foreign language interpreter or materials in a language other than English or an ASL translator, please contact Eleanor Castillo, Language Access Coordinator at 520-791-4171".

"如果您需要外語翻譯或非英語語言的材料或 ASL 翻譯，請致電 520-791-4171 聯繫語言訪問協調員 Eleanor Castillo".

"إذا كنت بحاجة إلى مترجم لغة أجنبية أو مواد بلغة أخرى غير الإنجليزية أو مترجم ASL، فيرجى الاتصال باليمنى كاستيلو Eleanor Castillo - منسق الوصول اللغوي - على الرقم 520-791-4171".

"Si usted necesita un intérprete de idioma extranjero o materiales en un idioma que no sea inglés o un traductor de ASL, por favor comuníquese con Eleanor Castillo, coordinadora de acceso lingüístico al 520-791-4171".

"如果您需要外語翻譯或非英語語言的材料或 ASL 翻譯，請致電 520-791-4171 聯繫語言訪問協調員 Eleanor Castillo".

"Iwapo unahitaji mkalimani wa lugha ya kigeni au nyenzo katika lugha nyingine isipokuwa Kiingereza au mfasiri wa ASL, tafadhali wasiliana na Eleanor Castillo, Mratibu wa Ufikiaji Lugha kwa 520-791-4171".

"외국어 통역사 또는 영어 또는 ASL 번역기 이외의 언어로 된 자료가 필요한 경우 언어 액세스 코디네이터인 Eleanor Castillo에게 520-791-4171번으로 문의하세요."

"Nếu bạn yêu cầu thông dịch viên tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh hoặc phiên dịch ASL, vui lòng liên hệ Eleanor Castillo, Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ theo số 520-791-4171".